

## ناحوم

۱۱ اے نینوہ! ایک شخص تجھ سے ہی آگے آیا اور خداوند کے خلاف بُرا منصوبہ بنایا اور بُرا مشورہ پیش کیا۔

۱۲ خداوند نے بولا: ”اگرچہ اسیر یہ کے لوگ کافی طاقتور ہیں اور اُنکے پاس کافی سپاہی ہیں، وہ کاٹ دیئے جائیں گے اور سب کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اے میرے لوگو! میں نے تم کو بہت دکھ دیا لیکن اب آگے تمہیں مزید دکھ نہیں دوں گا۔“

۱۳ میں اب تمہیں اُسور کی قوت سے نجات دوں گا۔ تمہارے کندھے سے میں وہ جُواتار دوں گا۔ تمہاری زنجیر جن میں تم بندھے ہو میں اب توڑ دوں گا۔

۱۴ اے اسور کے بادشاہ، تیرے بارے میں خداوند نے یہ کہتے ہوئے حکم دیا ہے:

”تیرا نام لیوا کوئی بھی نسل نہیں رہے گی۔ میں پتھریا لکڑیوں کے تراشے ہوئے بت اور ڈھالی ہوئی دھات کے مور توں جو کہ تمہارے جھوٹے خداؤں کی بیلک میں ہے کو نیست و نابود کروں گا میں تیرے لئے قبر بنا رہا ہوں کیونکہ تیرا خاتمہ بہت نزدیک ہے۔“

۱۵ دیکھ یہوداہ! دیکھ وہاں پہاڑ کے اوپر سے کوئی آ رہا ہے۔ کوئی ہر کارہ خوشخبری لے کر آ رہا ہے۔ دیکھو وہ کبہ رہا ہے کہ یہاں پر سلامتی ہے۔ اے یہوداہ! اپنی عمیدیں مٹا۔ اے یہوداہ! اپنی نذریں ادا کر۔ اب پھر کبھی خبیث تم پر حملہ نہ کریں گے اور وہ پھر تجھ کو ہرا نہیں پائیں گے۔ ان سبھی کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔

### نینوہ کو تباہ کیا جائے گا

۲ اے نینوہ، جو تباہ کرنا چاہتا ہے تجھ پر حملہ کرنے کے لئے آ رہا ہے۔ اس لئے تو اپنے قلعہ کو محفوظ رکھ۔ راہ کی نگہبانی کر۔ کھر بستہ ہو اور خوب مضبوط رہ۔

۳ کیونکہ خداوند یعقوب کی شان و شوکت کو اسرائیل کی شان و شوکت کی مانند بھجال کرے گا۔ اسرائیل کے لوگو! شمنوں سے کچل دیئے گئے تھے اور ان کی انگور کی بیلکیں روند ڈالی ہیں۔

۴ اس کے سپاہیوں کی سپریں سرخ ہیں۔ جنگی مرد قرمزی وردی پہنے ہیں۔ اس کی تیاری کے وقت رتھ فولاد سے جھلکتے ہیں اور دیودار کے نیرے بشدت ہلتے ہیں۔

یہ نینوہ کے بارے میں ایک بار نبوت ہے۔ یہ کتاب ناحوم ہے۔ یہ کتاب ناحوم کے بارے میں ایک بار نبوت ہے۔ یہ کتاب ناحوم ہے۔ ناحوم القوشی سے تھا۔

### خداوند نینوہ سے ناراض ہے

۳ خداوند بہت غیرت مند اور انتقام لینے والا خدا ہے۔ خداوند وہ جو طیش میں بدلہ لیتا ہے۔ وہ اپنے مخالفوں سے بدلہ لیتا ہے اور اسکا غیظ و غضب اُسکے دشمنوں کے خلاف ہے۔

۳ خداوند صابر ہے، لیکن وہ بہت قدرت والا ہے۔ اور خداوند قصور واروں کو سزا دیتا ہے۔ وہ انہیں ایسے ہی چھوٹ کر نہیں چلے جانے دے گا۔ دیکھو خداوند مجرموں کو سزا دینے آ رہا ہے۔ وہ اپنی قدرت دکھانے کے لئے گرد غبار اور آندھی کو کام میں لائے گا۔ انسان تو زمین پر مٹی میں چلتا ہے لیکن خداوند بادلوں پر چلتا ہے۔

۴ اگر خداوند سمندر کو ڈانٹے تو سمندر بھی سوکھ جائے۔ ساری ہی ندیوں کو وہ سکھا دیتا ہے۔ بسن اور کرمل ٹھکراتے ہیں، اور لبنان کی کونپلیں مرجھا جاتی ہیں۔

۵ خداوند کی آمد ہوگی اور پہاڑ خوف سے کانپیں گے اور یہ پہاڑیاں پگھل کر بہ جائیں گی۔ خداوند کی آمد ہوگی اور یہ زمین خوف سے کانپ اٹھے گی۔ یہ دنیا اور جو کچھ زندہ ہے خوف سے کانپے گی۔

۶ خداوند کے عظیم قہر کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی اس کا بھیانک غصہ سہ نہیں سکتا۔ اس کا قہر آگ کی مانند نازل ہوتا ہے۔ وہ چٹانوں کو توڑ ڈالتا ہے۔

۷ خداوند اچھا ہے اور مصیبت کے دن پناہ گاہ ہے۔ وہ اسے جانتا ہے جو اس میں پناہ لیتا ہے۔

۸ لیکن وہ اپنے دشمنوں کو پوری طرح نیست و نابود کر دے گا۔ وہ انہیں سیلاب کی طرح بہا کر لے جائے گا۔ تاریکی کے درمیان وہ اپنے دشمنوں کا پیچھا کرے گا۔

۹ کیا تم خداوند کے مخالفت میں منصوبے بنا رہے ہو؟ وہ تیرا خاتمہ کر دے گا۔ پھر اور کوئی دوبارہ کبھی خداوند کی مخالفت نہیں کرے گا۔

۱۰ تمہارے دشمن لہجے ہوئے کانٹوں سے نیست و نابود ہوں گے۔ وہ سوکھی گھاس کی مانند جلد جل جائیں گے۔

بہت سارے لوگوں سے بھرا ہے جس کا اس نے پیسجا کیا اور جنہیں اس نے مار ڈالا ہے۔

۲ سُنو چاک کی آواز اور بیسوں کی کھڑکھڑاہٹ اور گھوڑوں کی ٹاپیں اور ساتھ ساتھ اچھلتے رتھوں کے بچکولے۔

۳ سو بیکھو! سوار حملہ کر رہے ہیں اور ان کی تلواریں چمک رہی ہیں، بھالوں کی چمک اور لاشوں کی ڈھیر صاف نظر آرہی ہے۔ اگنت لوگ مارے گئے ہیں۔ لاشوں کی انتہا نہیں ہے۔ لوگ لاشوں کے اوپر ٹھو کر کھار رہے ہیں۔

۴ یہ سب کچھ اس طوائف نینوہ اور اس کے لاتعداد بدکاروں کے سبب ہے۔ وہ کشش اور اسکا طوائف پن جو اسے بہت سے قوموں کا، اور اس کی جادو گرمی جو اسے قبیلوں کا غلام بناتی ہے۔

۵ خداوند قادر مطلق کہتا ہے، ”اے نینوہ، میں تیرے خلاف ہوں اور تیرے لہنگا کو تیرے سر کے اوپر کھینچ لوں گا۔ اور قوموں کو تیری برہمنگی اور مملکتوں کو تیرا سوائی دکھلاؤں گا۔

۶ میں تیرے اوپر نجاست پھینک دوں گا۔ میں تجھ سے حقارت کے ساتھ برتاؤ کروں گا۔ لوگ تجھ کو دیکھیں گے۔ تجھ کو دیکھیں گے اور تجھ پر ہنسیں گے۔

۷ جو کوئی بھی تجھ کو دیکھے گا تجھ سے دُور بھاگے گا۔ وہ کہے گا، ”نینوہ تباہ ہو گیا۔ اس کے لئے کون رونے گا؟“ اے نینوہ، کوئی تجھے سکھ چین نہیں دیگا۔“

۸ کیا تو تبس سے بہتر ہے جو نیل ندی کے کنارے بسنا تھا اور پانی اس کی چاروں طرف تھا جس کی شہر پناہ دریائے نیل تھا اور جس کی دیوار شہر پانی تھا؟ ۹ کوش اور مصر نے تبس کو بہت قوت بخشی تھی۔ فوط اور لوبیم اس کے حمایتی تھے۔ ۱۰ لیکن تبس ہار گیا۔ اس کے لوگوں کو اسیر کر کے جلاوطن کر دیا گیا۔ کوچوں پر سپاہیوں نے اس کے جھوٹے بچوں کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا۔ انہوں نے قرعہ ڈالا تاکہ شرفاء کو غلام بنا کر اپنے پاس رکھے۔ تبس کے سبھی شرفاء پُر انہوں نے زنجیریں ڈال دی تھیں۔

۱۱ اس لئے اے نینوہ، تو نے میں ہو کر اپنے آپ کو چھپاؤ گے۔ اور دشمن سے پناہ ڈھونڈو گے۔ ۱۲ تیرے سب قلعے انجیر کے درخت کی مانند ہونگے جس پر پکے ہوئے پھل لگے ہوں جس کو اگر کوئی بلاتا ہے تو پھل اس کے منہ میں گر جائیگا۔

۱۳ اے نینوہ، تیرے لوگ تو عورتوں جیسے ہیں اور دشمن اسے پکڑنے کے لئے تیار بیٹھے ہیں۔ تیرے مملکت کے پھاٹک کھلے پڑے ہیں تاکہ تیرا دشمن آسانی سے اندر آجائے۔ تیرے پھاٹکوں کے سلاخیں جل کر

۴ ان کی رتھ گلیوں میں بھیانک طریقے سے بھاگتے ہیں۔ وہ گھلے میداؤں میں سلگتی مشعلوں کی مانند چمکتے ہیں اور تیرنی سے دوڑتے اور بے تحاشا بھاگتے ہیں۔ وہ ایسے لگتے ہیں جیسے یہاں وہاں بجلی کرکڑ رہی ہو۔

۵ دشمن اپنے سرداروں کو بلارہا ہے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھتے ہیں وہ ٹھو کر کھاتے ہیں۔ وہ لوگ تیرنی سے دیوار کی طرف دوڑے جو قلعہ شکن گاڑھی کے اوپر ڈھال کھڑا کیا۔

۶ لیکن ندیوں کے پھاٹک کھلے رکھے گئے۔ دشمن ان میں سے جا رہا ہے اور بادشاہ کے محل کو تباہ کر رہا ہے۔

۷ ملکہ کو قیدی بنا کر لے جایا گیا۔ اس کی لونڈیاں فاختوں کی مانند کراہتی ہیں اور غم میں اپنی چچاتی پیٹتی ہیں۔

۸ نینوہ تالاب کی مانند ہے جس کا پانی بھکر باہر نکل رہا ہو۔ لوگ چلا رہے ہیں اور کھ رہے ہیں،

”رکو! رکو! کہیں بھاگ مت جاؤ!“ لیکن واپس آنے کے لئے کوئی بھی نہیں رُکے گا۔

۹ اے سپاہیو! نینوہ کو لوٹ لو ہوا اور انکے سونے چاندی جمع کرو! یہاں پر لینے کو بہت سی چیزیں ہیں۔ یہاں پر بہت سے خزانے بھی آیا۔

۱۰ اب نینوہ خالی سنسان اور ویران ہے۔ اسکی دولت اُس سے چھین لی گئی ہے لوگوں نے اپنا حوصلہ کھودیا ہے۔ وہ لوگ خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ انکے دل خوف سے پگھل رہے ہیں اور گھٹنے آپس میں ٹکراتے ہیں۔ انکے جسم کا نپ رہے ہیں اور ان سب کے چہرے زرد ہو گئے ہیں۔

۱۱ نینوہ کبھی شیروں کی ماند کے مانند تھا۔ اب وہ ویسا نہیں ہے؟ جہاں شیریں رہا کرتے تھے اور ان کے بچے بے خوف گھومتے پھرتے تھے۔

۱۲ شیر بہر (نینوہ کا بادشاہ) اپنے بچوں کی خوراک کے لئے پھاڑتا تھا اور اپنی شیرنیوں کے لئے گلا گھونٹتا تھا اور اپنی ماندوں کو شکار سے اور غاروں کو پھاڑے ہوؤں سے بھرتا تھا۔

۱۳ خداوند قادر مطلق کہتا ہے، ”نینوہ میں تیرے خلاف ہوں۔ میں تیری رتھوں کو جلا دوں گا۔ جو ان شیروں کو جنگ میں ہلاک کرونگا میں تیرے شکار کو کاٹ ڈالوں گا۔ تم پھر کبھی دوبارہ اس زمین پر اپنا شکار نہیں مار پاؤ گے لوگ پھر کبھی تیرے قاصدوں کو نہیں سنیں گے۔

### نینوہ کے لئے بُری خبر

۳ اس خوزیز شہر پر افسوس! نینوہ ایسا شہر ہے جو جھوٹوں سے بھرا ہے۔ یہ دوسرے ملکوں کے لوٹ کے مال سے بھرا ہے۔ یہ ان

راکھ ہو گئے تھے۔ ۱۴ پانی اکٹھا کر اور اسے اپنے شہر کے اندر رکھوں۔ کیونکہ دشمن کے سپاہی تیرے شہر کو گھیر لیں گے۔ وہ لوگ کسی کو بھی شہر کے اندر کھانا یا پانی لانے نہیں دیں گے۔ اپنی قلعوں کو مضبوط بنا۔ اور زیادہ اینٹیں بنانے کے لئے زیادہ مٹی جمع کر۔ اور اینٹ کا سانچہ ہاتھ میں لے۔ ۱۵ وہاں آگ تجھے کھائے گی۔ تلوار کاٹ ڈالے گی۔ وہ ٹڈی کی طرح تجھے چٹ کر جائے گی۔

اگرچہ تو اپنے آپ کو چٹ کر جانے والی ٹڈیوں کی مانند فراوانی کرے اور ٹڈیوں کی فوج کے مانند بے شمار ہو جائے۔ ۱۶ تیرے یہاں کسی سودا گر ہو گئے جو مختلف جگہوں پر جا کر چیزیں خریدا کرتے تھے۔ وہ اتنے ان گنت ہو گئے جتنے آسمان کے تارے ہیں۔ وہ اس ٹڈی دل کے جیسے

ہو گئے جو کھاتا ہے، اور سب کچھ کو اس وقت تک کھاتا رہتا ہے جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتی اور پھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ۱۷ تیرے شریف اور امراء ٹڈیوں کے دل کی طرح ہیں۔ جو سردی کے دن دیوار پر رہتی ہے اور جب آفتاب نکلتا ہے تو اڑ جاتی ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ سب کہاں جاتا ہے۔ ۱۸ اے اسور کے بادشاہ تیرے چرواہے (سردار) سو گئے۔ زور آور لوگ بھی موعو خواب ہیں۔ اور تیرے بھیڑ بلا مقصد پہاڑوں پر بھٹک رہی ہے۔ انہیں واپس لانے والا کوئی نہیں ہے۔ ۱۹ تو بُری طرح گھائل ہوا ہے اور ایسا کچھ نہیں ہے جو تیرے زخم کو بھر سکے۔ ہر کوئی جو تیری تباہی کا ذکر سنتا ہے۔ تالیاں بجاتا ہے، وہ سب بہت خوش ہیں۔ جیسا کہ سبھی تیرے ظالمانہ عمل میں مبتلا ہیں۔

# License Agreement for Bible Texts

World Bible Translation Center

Last Updated: September 21, 2006

Copyright © 2006 by World Bible Translation Center

All rights reserved.

## These Scriptures:

- Are copyrighted by World Bible Translation Center.
- Are not public domain.
- May not be altered or modified in any form.
- May not be sold or offered for sale in any form.
- May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online ad space).
- May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license (without modification) must also be included.
- May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: "Taken from the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission." If the text quoted is from one of WBTC's non-English versions, the printed title of the actual text quoted will be substituted for "HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™." The copyright notice must appear in English or be translated into another language. When quotations from WBTC's text are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials of the version (such as "ERV" for the Easy-to-Read Version™ in English) must appear at the end of each quotation.

Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC's text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World Bible Translation Center in writing or by email at [distribution@wbtc.com](mailto:distribution@wbtc.com).

World Bible Translation Center

P.O. Box 820648

Fort Worth, Texas 76182, USA

Telephone: 1-817-595-1664

Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE

E-mail: [info@wbtc.com](mailto:info@wbtc.com)

**WBTC's web site** – World Bible Translation Center's web site: <http://www.wbtc.org>

**Order online** – To order a copy of our texts online, go to: <http://www.wbtc.org>

**Current license agreement** – This license is subject to change without notice. The current license can be found at: <http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm>

**Trouble viewing this file** – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from: <http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html>

**Viewing Chinese or Korean PDFs** – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from: <http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html>